





Colli-Pee® UAS® FV-5040

REF N00342



COLLI-PEE is a registered trademark in the name of Novosanis NV  
www.novosanis.com







Patent (www.novosanis.com/legal-notice)  
© 2022 Novosanis, a subsidiary of OraSure Technologies, Inc., all rights reserved.

UK Responsible Person:  
Emergo Consulting (UK) Limited  
c/o C360 - UL International, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ, United Kingdom.  
UKRPvigilance@ul.com  
Tel: +44 (0) 1223.772.671

DNA Genetek,  
3000 - 500 Palladium Drive,  
Ottawa, Canada K2V 1C2



Bijkhoevelaan 32c  
B-2110 Wijnegem, Belgium  
welcome@novosanis.com  
Subsidiary of OraSure Technologies, Inc.



## NL EERSTE FRACTIE URINE ZELFCOLLECTOR

Voor gestandaardiseerde, volumetrische verzameling en bewaring van eerste fractie urinstalen.  
Lees vóór gebruik alle instructies.

### ÉÉN PAKKET BEVAT

- I. Colli-Pee® plastuit**  
A. Plastuit, B. Vlotter  
**II. Collector buisje**  
C. Afsluitdop, D. Buisje, E. Bewaarmiddel 11.5 mL UAS®

### WAARSCHUWING

NIET grondig intieme zone wassen alvorens te plassen.  
NIET gebruiken indien u 1 uur vóór gebruik nog geplast hebt.  
NIET gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is.  
Voor eenmalig gebruik.  
Bewaarmiddel in buisje. Drink dit niet! Was met water indien het bewaarmiddel in contact komt met huid of ogen.\*

### Gebruikersinstructies

- Draai de afsluitdop (C) los.
- Duw het buisje (D) op de Colli-Pee® plastuit.
- Vang urine op: Het toestel zal automatisch het correcte volume opvangen. Het is niet nodig om de urinestraal te onderbreken. Urine die niet meer in het buisje past, komt via het andere uiteinde van de plastuit in het toilet terecht.\*\*
- Koppel de collector buis los van de Colli-Pee® plastuit.
- Sluit het buisje goed af. De afsluitdop (C) dient stevig te worden vastgedraaid.
- Gooi de Colli-Pee® plastuit weg volgens de lokale regelgeving voor plastic afval.
- Was uw handen.

\*Meer informatie is te vinden op het SDS, www.novosanis.com  
\*\*In geval van een ernstig incident met het toestel, gelieve Novosanis en het FAGG te verwittigen: <https://www.fagg.be/nl>

## EN FIRST-VOID URINE SELF-SAMPLING DEVICE

For standardized, volumetric collection and preservation of first-void urine samples.  
Read all instructions prior to collection.

### ONE PACKAGE CONTAINS

- I. Colli-Pee® funnel**  
A. Housing, B. Floater  
**II. Collector tube**  
C. Tube cap, D. Collector tube, E. Preservative 11.5 mL UAS®

### CAUTION

Do NOT wash your intimate zone thoroughly before urinating.  
Do NOT urinate 1 hour prior to use.  
Do NOT use if the packaging is damaged.

For single use only.  
Preservative should remain inside collector tube. Do not drink the preservative. Wash with water if preservative comes into contact with skin or eyes.\*

### User instructions

- Unscrew the tube cap (C).
- Push the collector tube (D) on the Colli-Pee® funnel.
- Collect urine: The device will automatically collect the correct volume. There is no need to interrupt the urine stream. Excess urine that no longer fits into the collector tube, will flow into the toilet via the other end of the housing.\*\*
- Disconnect the collector tube from the Colli-Pee® funnel.
- Close the tube tightly. Tube cap (C) should be screwed on tightly.
- Dispose the Colli-Pee® funnel according to local regulations for plastic waste.
- Wash your hands.

\*More information can be found on the SDS, www.novosanis.com  
\*\*In case of any serious incident with the device, please inform Novosanis and FAMHP: <https://www.famhp.be/en>

## FR DISPOSITIF D'AUTO-ÉCHANTILLONNAGE DU PREMIER JET D'URINE

Pour la collecte volumétrique standardisée et la préservation du premier jet d'urine.  
Veuillez lire attentivement les instructions avant l'utilisation de ce produit.

### UN PAQUET CONTIENT

- I. Entonnoir Colli-Pee®**  
A. Urinette, B. Flotteur  
**II. Tube collecteur**  
C. Bouchon du tube, D. Tube collecteur, E. Conservateur 11,5 mL UAS®

### AVERTISSEMENT

NE PAS effectuer de toilette intime avant d'uriner.  
NE PAS utiliser ce produit si vous avez uriné 1 heure avant l'utilisation.  
NE PAS utiliser ce produit si l'emballage est endommagé.  
À usage unique.  
Le conservateur doit rester dans le tube du collecteur. Ne pas ingérer le conservateur. Laver à l'eau si le conservateur entre en contact avec la peau ou les yeux.\*

### Instructions d'utilisation

- Dévissez le bouchon du tube (C).
- Poussez le tube collecteur (D) sur l'entonnoir Colli-Pee®.
- Pour recueillir l'urine : ce dispositif recueille automatiquement le volume correct d'urine. Il n'est pas nécessaire d'interrompre le jet urinaire. L'excédent d'urine s'écoulera dans les toilettes, par l'autre extrémité de l'urinette.\*\*
- Détachez le tube collecteur de l'entonnoir Colli-Pee®.
- Fermez bien le tube. Le bouchon (C) doit être fermement vissé.
- Jetez l'entonnoir Colli-Pee® conformément aux réglementations locales pour les déchets plastiques.
- Lavez-vous soigneusement les mains.

\*Plus d'informations sont disponibles sur la FDS, www.novosanis.com  
\*\*En cas d'incident grave avec l'appareil, veuillez informer Novosanis et l'AFMPS : <https://www.afmps.be/fr>

## IT DISPOSITIVO PER LA RACCOLTA AUTONOMA DELLE URINE (PRIMO GETTO)

Per la raccolta volumetrica standardizzata e la preservazione di campioni di urina del primo getto.  
Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- I. Imbuto Colli-Pee®**  
A. Imbuto, B. Galleggiante  
**II. Contenitore per la raccolta delle urine**  
C. Coperchio D. Contenitore, E. Conservante 11,5 mL UAS®

### PRECAUZIONI PER L'USO

NON lavare a fondo le parti intime prima di urinare.  
NON urinare 1 ora prima dell'uso.  
NON utilizzare se la confezione è danneggiata.  
Dispositivo monouso.  
Il conservante deve rimanere all'interno del contenitore. Non ingerire il conservante. Sciacquare con acqua se il conservante entra in contatto con la cute o gli occhi.\*

### Istruzioni per l'uso

- Svitare il coperchio (C).
- Premere il contenitore (D) sull'imbuto Colli-Pee®.
- Raccogliere le urine: il dispositivo raccoglierà automaticamente il volume corretto. Non è necessario interrompere il flusso urinario. L'urina in eccesso, che non entra più nel contenitore, finirà nel WC attraverso l'altra estremità dell'imbuto.\*\*
- Scollare il contenitore dall'imbuto Colli-Pee®.
- Chiudere saldamente il contenitore. Il coperchio (C) dev essere avvitato completamente.
- Smaltire l'imbuto Colli-Pee® in conformità alle leggi locali sui rifiuti plastici.
- Lavarsi le mani.

\*Per maggiori informazioni, consultare la scheda di sicurezza (SDS) all'indirizzo www.novosanis.com  
\*\*In caso di incidenti gravi legati all'uso del dispositivo, informare Novosanis e FAMHP: <https://www.famhp.be/en>

## PT DISPOSITIVO DE AUTO-COLHEITA DE AMOSTRA DE URINA DE PRIMEIRO JATO

Para a colheita volumétrica normalizada e conservação de amostras de urina de primeiro jato.  
Ler todas as instruções antes da colheita.

### UMA EMBALAGEM CONTÉM

- I. Funil Colli-Pee®**  
A. Funil urinário, B. Flutuador  
**II. Tubo de recolha**  
C. Tampa, D. Tubo, E. Conservante 11.5 mL UAS®

### PRECAUÇÕES

NÃO lavar a zona íntima exaustivamente antes de urinar.  
NÃO urinar 1 hora antes de utilizar.  
NÃO utilizar se a embalagem estiver danificada.  
Para uso único.  
O líquido conservante deve permanecer dentro do tubo de recolha. Não beber o líquido conservante. Lavar com água se o líquido conservante entrar em contacto com a pele ou os olhos.\*

### Instruções de utilização

- Desenroscar a tampa (C) do tubo.
- Pressionar o tubo de recolha (D) sobre o funil Colli-Pee®.
- Recolher a urina: o dispositivo recolherá automaticamente a quantidade adequada. Não é necessário interromper o fluxo urinário. O excesso de urina que não cabe no tubo de recolha é deitado na sanita através da outra extremidade do funil urinário.\*\*
- Desconectar o tubo de recolha do funil Colli-Pee®.
- Fechar bem o tubo. A tampa (C) deve ser devidamente enroscada.
- Deitar fora o funil Colli-Pee® de acordo com os regulamentos locais em matéria de resíduos plásticos.
- Lavar cuidadosamente as mãos.

\*Para mais informações, consultar a FDS em www.novosanis.com  
\*\*Em caso de incidente grave com o dispositivo, informar a Novosanis e a FAMHP: <https://www.famhp.be/en>

## ES DISPOSITIVO DE AUTOMUESTREO DE LA PRIMERA EVACUACIÓN DE ORINA

Para la obtención volumétrica estandarizada y conservación de muestras de la primera evacuación de orina.  
Leer todas las instrucciones antes de usar.

### UN PAQUETE CONTIENE

- I. Embudo Colli-Pee®**  
A. Carcasa, B. Flotador  
**II. Tubo colector**  
C. Tapón del tubo, D. Tubo colector, E. Conservante 11,5 mL UAS®

### PRECAUCIÓN

NO lavar las partes íntimas de forma exhaustiva antes de orinar.  
NO orinar una hora antes de usar el dispositivo.  
NO usar si el envase está dañado.  
Para un solo uso.  
El conservante debe permanecer dentro del tubo colector. No beber el conservante. Lavar con agua si el conservante entra en contacto con la piel o los ojos.\*

### Instrucciones de uso

- Desenroscar el tapón del tubo (C).
- Empujar el tubo colector (D) en el embudo Colli-Pee®.
- Recoger la orina: el dispositivo recogerá automáticamente el volumen correcto. No es necesario detener el flujo de orina. El exceso de orina que no quepa dentro del tubo colector, fluirá al inodoro a través del otro extremo del embudo.\*\*
- Desconectar el tubo del embudo Colli-Pee®.
- Cerrar el tubo con fuerza. El tapón del tubo (C) se debe enroscar correctamente.
- Desechar el embudo Colli-Pee® de acuerdo con la normativa local sobre residuos plásticos.
- Lavarse las manos.

\*Se puede encontrar más información en la hoja de datos de seguridad (SDS), www.novosanis.com  
\*\*En caso de incidente grave con el dispositivo, informar a Novosanis y a FAMHP: <https://www.famhp.be/en>

## NO ENHET FOR SELVPRØVETAKING AV FØRSTE URINPORSJØN

For standardisert, volumetrisk innsamling og oppbevaring av første urinporasjon.  
Les alle instruksene før du tar urinprøven.

### EN PAKNING INNEHOLDER

- I. Colli-Pee® trakt**  
A. Trakt, B. Plyvåk  
**II. Prøveglass**  
C. Kork, D. Zakrøkta, E. Konserveringsmiddel 11.5 mL UAS®

### FORSIKTIG

Du må ikke vaske deg nøye nedentil før du urinerer.  
Du må lå være å urinere en time før prøvetakingen.  
Den må ikke brukes dersom forpakningen er skadet.  
Kun til engangsbruk.  
Konserveringsmiddelet skal forbli i prøveglasset. Konserveringsmiddelet må ikke drikkes. Vask med vann dersom konserveringsmiddel kommer i kontakt med hud eller øyne.\*

### Bruksanvisning

- Skru lokket (C) av prøveglasset.
- Skyv prøveglasset (D) på Colli-Pee®-trakten.
- Innsamling av urin: Enheten vil automatisk samle opp riktig volum. Uriner til du er ferdig, du behøver ikke å avbryte urinstrømmen. Overflødig urin som ikke får plass i prøveglasset vil forsvinne ned i toalettet via den andre enden av trakten.\*\*
- Løsne prøveglasset fra Colli-Pee® trakten.
- Lukk prøveglasset godt. Lokket (C) må skrues skikkelig på.
- Kast Colli-Pee®-trakten i henhold til lokale forskrifter for plastavfall.
- Vask hendene.

\*Ytterligere informasjon finnes på SDS, www.novosanis.com  
\*\*I tilfelle en alvorlig hendelse med enheten ber vi deg informere Novosanis og FAMHP: <https://www.famhp.be/en>

## DE VORRICHTUNG ZUR SELBSTSTÄNDIGEN URINSAMMLUNG (ERSTURIN)

Für die standardisierte volumetrische Sammlung und Konservierung von Ersturin.  
Bitte vor der Verwendung die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen.

### PACKUNGSIHALT

- I. Colli-Pee® Trichter**  
A. Trichter, B. Schwimmer  
**II. Sammelbehältnis**  
C. Verschlusskappe, D. Sammelbehältnis, E. Konservierungsmittel 11.5 mL UAS®  
**ACHTUNG**

Vor dem Urinieren die Intimzone NICHT gründlich waschen.  
1 Stunde vor Gebrauch NICHT urinieren.  
Bei beschädigter Verpackung NICHT verwenden.  
Zum einmaligen Gebrauch.  
Das Konservierungsmittel muss im Sammelbehältnis verbleiben. Trinken Sie das Konservierungsmittel nicht. Mit Wasser spülen, wenn das Konservierungsmittel mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt.\*

### Gebrauchsanweisung

- Schrauben Sie die Verschlusskappe (C) ab.
- Stecken Sie das Sammelbehältnis (D) auf den Colli-Pee® trichter.
- Urinsammlung: Die Vorrichtung sammelt automatisch die richtige Menge. Es ist daher nicht notwendig, den Urinfluss zu unterbrechen. Überschüssiger Urin, der nicht mehr in das Sammelbehältnis passt, wird über das andere Ende des Gerätes in die Toilette abgeleitet.\*\*
- Entfernen Sie das Sammelbehältnis vom Colli-Pee®-Gerät.
- Schließen Sie das Rohr gut. Die Verschlusskappe (C) muss ordnungsgemäß aufgeschraubt sein.
- Entsorgen den Colli-Pee® trichter unter Beachtung der örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Waschen Sie sich die Hände.

\*Weitere Informationen sind im SDB angegeben, www.novosanis.com  
\*\*Bitte informieren Sie, im Falle eines schwerwiegenden, die Vorrichtung betreffenden Unfalls Novosanis und FAMHP: <https://www.famhp.be/en>

## PL URZĄDZENIE DO SAMODZIELNEGO POBIERANIA PRÓBKII MOCZU Z PIERWSZEGO STRUMIENIA

Do standaryzowanego, wolumetrycznego pobierania i konserwowania próbek moczu z pierwszego strumienia.  
Przeczytaj wszystkie wskazówki przed pobraniem moczu.

### JEDNO OPAKOWANIE ZAWIERA

- I. Lejek Colli-Pee®**  
A. Obudowa, B. Pływak  
**II. Zbiornik**  
C. Zakrętka, D. Zbiornik, E. Środek konserwujący 11,5 mL UAS®

### PRZESTROGA

Przed oddaniem moczu nie myj dokładnie okolic intymnych.  
Nie oddawaj moczu godzinę przed użyciem produktu.  
Nie używaj, jeśli opakowanie jest uszkodzone.  
Wyłącznie do jednorazowego użytku.  
Środek konserwujący musi pozostawać w zbiorniku. Nie pij środka konserwującego. W przypadku kontaktu środka konserwującego ze skórą lub przedostania się do oczu przepłucz wodą\*.

### Wskazówki dla użytkownika

- Odkręć zakrętkę (C).
- Wsuń rurkę kolektora (D) na lejek Colli-Pee®.
- Pobierz moc; urządzenie automatycznie pobierze jego właściwą objętość. Nie ma potrzeby przerywania strumienia moczu. Nadmiar moczu, który nie mieści się już w zbiorniku, wypłynie do toalety przez drugi koniec obudowy\*\*.
- Odkręć zbiornik od lejka Colli-Pee®.
- Dokładnie zamknij zbiornik. Zakrętka (C) musi być mocno przykręcona.
- Zutylizuj lejek Colli-Pee® zgodnie z lokalnymi przepisami obowiązującymi dla odpadów z tworzyw sztucznych.
- Umyj ręce.

\*Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki, www.novosanis.com  
\*\*W przypadku poważnych zdarzeń związanych z wyrobem należy powiadomić firmę Novosanis oraz FAMHP: <https://www.famhp.be/en>

## SV SJÄLVPROVTAGNINGSENHET FÖR FÖRSTA URINSTRÅLE

För standardiserad, volymetrisk insamling och förvaring av FVU-prover.  
Läs alla instruktioner innan insamling.

### EN FÖRPACKNING INNEHÅLLER

- I. Colli-Pee® tratt**  
A. Hölje, B. Flottör  
**II. Samlingsrör**  
C. Rörkork, D. Uppsamlingsrör, E. Konserveringsmedel 11.5 mL UAS®

### VAR FÖRSIKTIG

Tvätta inte din intima zon noggrant innan du urinerar.  
Urinera inte en timma innan användning.  
Använd inte om förpackningen är skadad.  
Endast för engångsbruk.  
Konserveringsmedlet ska förbli inne i uppsamlingsröret. Drick inte konserveringsmedlet. Tvätta med vatten om konserveringsmedel kommer i kontakt med hud eller ögon.\*

### Bruksanvisning

- Skruva loss korken på röret (C).
- Tryck på uppsamlingsröret (D) på Colli-Pee®-tratten.
- Samla in urin: enheten samlar automatiskt in rätt mängd. Du behövar inte avbryta urinströmmen. Överskott av urin som inte passar i uppsamlingsröret rinner ner i toaletten via den andra änden av höljet\*\*
- Koppla ur samlingsröret från Colli-Pee® tratt.
- Stäng röret noggrant. Rörets kork (C) ska skrivas åt noggrant.
- Kasta Colli-Pee® tratt -enheten enligt lokala bestämmelser för plastavfall.
- Tvätta händerna.

\*Mer information hittar du på SDS, www.novosanis.com  
\*\*I händelse av allvarig incident, informera Novosanis och FAMHP: <https://www.famhp.be/en>

<b>THAI</b> <div>อุปกรณ์เก็บตัวอย่างปัสสาวะส่วนแรกแบบมาตรฐาน</div>
<span></span>
สำหรับกรเก็บและรักษาตัวอย่างปัสสาวะส่วนแรกแบบมาตรฐาน
อ่านคำแนะน้าทั้งหมดเกี่ยวกับตัวอย่าง

<b>อุปกรณ์หนึ่งชุดประกอบไปด้วย</b>
<b>I. กรวย Colli-Pee®</b>
A. กรวยอก (Housing), B. หลอดเก็บตกอนปัสสาวะ
<b>II. หลอดเก็บตัวอย่าง</b>
C. ฝาปิดหลอดเก็บตัวอย่าง, D. หลอดเก็บตัวอย่าง, E. บัฟเฟอร์ 11.5 มล. UAS®

**ข้อควรระวัง**

อย่าล้างจุดซ่อนเร้นก่อนปัสสาวะ
อย่าปัสสาวะ 1 ชั่วโมงก่อนใช้งาน
อย่าใช้หากพบว่าบรรจุภัณฑ์เสียหาย
สำหรับใช้ครั้งเดียว
สารกัมเสียควรอุ้ภายใต้หลอดเก็บตัวอย่าง ห้ามสัมผัสกัมเสีย
ล้างด้วยน้ำหากสารรักษาผลกัมสัมผัสกัมเสียหรือตกค้าง
\*

<b>คำแนะน้าใกรใช้งาน</b>
1. เปิดฝาปิดหลอดเก็บตัวอย่าง (C)
2. ถอดหลอดเก็บปัสสาวะ (D) บนกรวย® Colli-Pee®.
3. เก็บปัสสาวะ:
อุปกรณ์จะเก็บปัสสาวะไปปริมาณที่หมายโดยสมอัตโนมัติไม่ต้องกั้นปัสสาวะ เพราะกลัลันปัสสาวะส่วนที่เหลือเก็บหลอดเก็บตัวอย่างจะไหลไปยังกล่องผ่านปลายอีกด้าน ของกรวยอกสำหรับใช้ครั้งเดียว **
4. นำหลอดเก็บตัวอย่างออกจากกรวย Colli-Pee®
5. ปิดหลอดให้สนิท ควรหมุนฝาปิดหลอดเก็บตัวอย่าง (C) ให้แน่น
6. กำจัดกรวย Colli-Pee® ตามข้อบ่งชี้ท้องถิ่นสำหรับขยะพลาสติก
7. ล้างมือ

\*ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDS ได้ที่ www.novosanis.com
\*\* ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือพบอุปกรณ์ไม่ตรงแจ้ง Novosanis และ FAMHP ได้ที่: https://www.fagg.be/nl

<b>RO</b> <div>DISPOZITIV DE AUTO-EȘANTIONARE A PRIMULUI JET DE URINĂ</div>
<span></span>
Pentru recoltarea standardizată și volumetrică și conservarea probelor primului jet de urină.
Citiți toate instrucțiunile înainte de recoltare.

<b>UN PACHET CONȚINE</b>
<b>I. Pâlnie Colli-Pee®</b>
A.Corp dispozitiv, B. Plutitor
<b>II.Tub de recoltare</b>
C. Capac tub, D. Tub recoltare, E. Conservant 11.5 mL UAS®

<b>Atenție</b>
Nu vă spălați în mod aprofundat părțile intime înainte de urinare.
Nu urinați cu o oră înainte de folosire.
Nu folosiți dacă ambalajul este deteriorat.
Pentru o singură întrebuințare.
Conservantul trebuie să rămână în interiorul tubului de recoltare. Nu beți conservantul. Spălați cu apă în cazul în care conservantul intră în contact cu pielea sau ochii dumneavoastră.*

<b>UMA EMBALAGEM CONTÉM</b>
<b>I. Funil Colli-Pee®</b>
A. Funil urinário, B. Flutuador
<b>II. Tubo coletor</b>
C. Tampa, D. Tubo, E. Conservante 11.5 mL UAS®

<b>PRECAUÇÕES</b>
Não lave a região íntima completamente antes de urinar.
Não urine uma hora antes do uso.
Não use se a embalagem estiver danificada.
Não use novamente.
O líquido conservante deve permanecer dentro do tubo de coleta. Não beba o líquido conservante. Lavar com água se o preservativo entrar em contato com a pele ou olhos.*

**Instrucțiuni pentru utilizator**

- Deșurubați capacul tubului (C).
- Împingeți tubul colector (D) în pâlnia Colli-Pee®.
- Recoltarea urinei: dispozitivul va recolta automat volumul corect. Nu este nevoie să întrerupeți jetul de urină. Excesul de urină care nu mai încapă în tubul de recoltare, va curge direct în vasul de toaletă prin intermediul celuialt capăt al corpului dispozitivului.\*\*
- Deconectați tubul de recoltare de pe pâlnia Colli-Pee®.
- Închideți etanș tubul. Capacul tubului (C) trebuie să fie înșurubat etanș.
- Eliminați pâlna Colli-Pee® în conformitate cu reglementările locale pentru deșeurile din plastic.
- Spălați-vă pe mâini.

\*Mai multe informații pot fi găsite pe SDS, www.novosanis.com
\*\*In caz de orice accident grav cu dispozitivul, vă rugăm informați Novosanis și FAMHP: https://www.famhp.be/en

<b>KO</b> <div>아침 첫 소변 자가 샘플링 기기</div>
<span></span>
아침 첫 소변 검체의 표준화된 용적측정 수집 및 보존용 기기입니다. 체뇨 전 모든 지침을 읽으십시오.

<b>패키지 내용물</b>
<b>I. Colli-Pee® 깔때기</b>
A. 하우징, B. 플로터
<b>II. 콜렉터 튜브</b>
C. 튜브 캡, D. 콜렉터 튜브, E. 방부제 11.5 mL UAS®

**주의**
소변을 보기 전 주변 부위를 완전히 닦지 마십시오.
사용 1시간 전에는 소변을 보지 마십시오.
포장이 손상된 경우 사용하지 마십시오.
반드시 일회용으로만 사용하십시오.
콜렉터 튜브 안쪽에 방부제가 남아 있어야 합니다. 방부제를 마시지 마십시오.
방부제가 피부나 눈에 닿은 경우 물로 씻어내십시오.\*

<b>사용 지침</b>
1. 튜브 캡(C)을 풀니다.
2. Colli-Pee® 깔때기 위에 놓고 콜렉터 튜브(D)를 누릅니다.
3. 체뇨를 진행합니다. 기기가 자동으로 정확한 양을 채뇨합니다. 소변을 보는 동안 중단하지 않아도 괜찮습니다. 콜렉터 튜브에 필요한 양을 초과하면 소변이 하우징의 다른 쪽 끝을 통해 변기에 흘러내리게 됩니다.**
4. Colli-Pee® 깔때기에서 콜렉터 튜브를 분리합니다.
5. 튜브 캡을 완전히 닫습니다. 튜브 캡(C)은 단단히 조여야 합니다.
6. 현지 플라스틱 폐기물 규정에 따라 Colli-Pee® 깔때기를 폐기하십시오.
7. 손을 씻으십시오.

\*더 자세한 정보는 SDS, www.novosanis.com 웹사이트에 방문하시면 확인하실 수 있습니다.
\*\*기가 사용 중 중대한 사고가 발생한 경우 Novosanis와 FAMHP: https://www.famhp.be/en로 알려주시기 바랍니다.

<b>BR</b> <div>DISPOSITIVO DE AUTO-EȘANTIONARE A PRIMULUI JET DE URINĂ</div>
<span></span>
Para a coleta volumétrica normalizada e conservação de amostras de urina de primeiro jato.
Leia atentamente as instruções antes do uso.

<b>UMA EMBALAGEM CONTÉM</b>
<b>I. Funil Colli-Pee®</b>
A. Funil urinário, B. Flutuador
<b>II. Tubo coletor</b>
C. Tampa, D. Tubo, E. Conservante 11.5 mL UAS®

<b>PRECAUÇÕES</b>
Não lave a região íntima completamente antes de urinar.
Não urine uma hora antes do uso.
Não use se a embalagem estiver danificada.
Não use novamente.
O líquido conservante deve permanecer dentro do tubo de coleta. Não beba o líquido conservante. Lavar com água se o preservativo entrar em contato com a pele ou olhos.*

<b>Instruções de uso</b>
1. Desenrosque a tampa (C) do tubo.
2. Pressione o tubo de coleta (D) sobre o funil Colli-Pee®.
3. Colete a urina: a quantidade adequada é automaticamente coletada. Não é necessário interromper a urinação. O excesso de urina que não cabe no tubo de recolha é jogado no vaso sanitário pelo outro extremo do funil urinário.**
4. Retire o tubo coletor do Colli-Pee® funil.
5. Feche bem o tubo. A tampa (C) deve ser devidamente enroscada.
6. Jogue fora o Colli-Pee® funil de acordo com os regulamentos locais em matéria de resíduos plásticos.
7. Lave cuidadosamente as mãos.

<b>Instrucțiuni pentru utilizator</b>
1. Desenroscați capacul tubului (C).
2. Împingeți tubul colector (D) în pâlnia Colli-Pee®.
3. Recoltarea urinei: dispozitivul va recolta automat volumul corect. Nu este nevoie să întrerupeți jetul de urină. Excesul de urină care nu mai încapă în tubul de recoltare, va curge direct în vasul de toaletă prin intermediul celuialt capăt al corpului dispozitivului.**
4. Deconectați tubul de recoltare de pe pâlnia Colli-Pee®.
5. Închideți etanș tubul. Capacul tubului (C) trebuie să fie înșurubat etanș.
6. Eliminați pâlna Colli-Pee® în conformitate cu reglementările locale pentru deșeurile din plastic.
7. Spălați-vă pe mâini.

\*Para maiores informações, consulte a FDS em www.novosanis.com
\*\*Em caso de incidente grave com o dispositivo, informe a Novosanis e a FAMHP: https://www.famhp.be/en

<b>JP</b> <div>初尿自己採尿器</div>
<span></span>
標準必要量の初尿採尿および保存用 採尿前に取扱説明書をよくお読みください

<b>内容物</b>
<b>I. Colli-Pee® 本体（漏斗）</b>
A. 尿受け部 B. フローター
<b>II. 採尿容器</b>
C. 容器ふた, D. 採尿容器（尿スビッツ）、E. 防腐剤 11.5 mL UAS®

**注意**
排尿前に陰部に尿を念に洗わなくてください。
使用前の一時間は排尿しないでください。
包装が破れている場合は使用しないでください。
単回使用（繰り返しお使いいただくことはできません）。
防腐剤は採尿容器から取り出さなくてください。防腐剤を飲まなくてください。防腐剤が皮膚に触れた場合や、目に入った場合は、水で洗い流してください。\*

<b>使用方法</b>
1. 容器ふた (C) を外します。
2. Colli-Pee® 本体（漏斗）の採尿容器 (D) を押します。
3. 排尿します。本採尿器によって適量が自動採尿されます。排尿を中断する必要はありません。採尿容器に入らない尿は、尿受け部の反対側から便器に流れ出ます。**
4. Colli-Pee® 本体（漏斗）から採取容器を取り外します。
5. 採尿容器のふたをしっかり閉めます。ふた (C) は必ずしっかりと締めてください。
6. プラスチック廃棄物に関する現地の各種規制に従ってColli-Pee® 本体（漏斗）を廃棄してください。
7. 手を洗ってください。

\*詳細はwww.novosanis.comにアクセスし、安全データシート(SDS)をご確認ください。
\*\*如果该装置引发任何严重事故，请通知 Novosanis 和 FAMHP, 网址如下：https://www.famhp.be/en
\*\*本品に関連する深刻なインシデントが発生した場合は、NovosanisおよびFAMHP https://www.famhp.be/enに報告してください。

<b>TR</b> <div>İLK AKIM İDRAR KİŞİSEL NUMUNE ALMA CİHAZI</div>
<span></span>
İlk akim idrar numunelerinin standart, volumetrik şekilde alınması ve korunması için.
Numune almadan önce tüm talimatları okuyun.

<b>BİR PAKETİN İÇİNDEKİLER</b>
<b>I. Colli-Pee® huni</b>
A. Mahfaza, B. Flatör
<b>II. Toplama tüpü</b>
C. Tüp kapağı, D. Toplama tüpü, E. Koruyucu 11.5 mL UAS®

<b>DİKKAT</b>
İdrarınızı yapmadan önce özel bölgenizi tamamen yıkamayın. Kullanmadan 1 saat öncesine kadar idrarınızı yapmayın.
Ambalaj hasarlıysa kullanmayın.
Sadece tek kullanımlıktır.
Koruyucu, toplama tüpünün içinde kalmalıdır. Koruyucuyu içmeyin. Koruyucunun cilt veya gözle temas etmesi durumunda suyla yıkayın.*

<b>HATI-HATI</b>
JANGAN cuci area kemaluan Anda secara menyeluruh sebelum buang air kecil.
JANGAN buang air 1 jam sebelum penggunaan.
JANGANgunakan jika kemasan rusak.
Hanya untuk sekali pakai.
Bahan pengawet harus tetap di dalam tabung pengumpul. Jangan meminum bahan pengawet. Basuh dengan air jika bahan pengawet mengenai mata atau kulit.*

<b>Kullanıcı talimatları</b>
1. Tüp kapağını (C) açın.
2. Toplama tüpünü (D) Colli-Pee® huninin üzerine itin.
3. İdrar alın: Cihaz, doğru hacimde idranı otomatik olarak alır. İdrar akışını kesmeye gerek yoktur. Toplama tüpüne girmeyen fazla idrar, mahfazanın diğer ucu vasıtasıyla tuvalete akar.**
4. Toplama tüpünü Colli-Pee® huniden ayırın.
5. Tüpü sıkıca kapatın. Tüp kapağı (C), sıkıca yerine takılmalıdır.
6. Colli-Pee® huniyi yerel plastik atık yönetmeliklerine uygun şekilde atın.
7. Ellerinizi yıkayın.

\*Daha fazla bilgi Güvenlik Bilgi Formunda bulunabilir, www.novosanis.com
\*\*Cihazla ilgili ciddi bir olay olması durumunda lütfen Novosanis ve FAMHP'yi bilgilendirin: https://www.famhp.be/en

<b>ZH</b> <div>首段尿自采 装置</div>
<span></span>
本产品用于首段尿样的标准化定容采集和保存在采集尿液前，请仔细阅读所有说明

<b>一个包装内所含物品</b>
<b>I. Colli-Pee® 漏斗</b>
A. 收集罩, B. 止逆浮阀
<b>II. 采集管</b>
C. 试管盖, D. 采集管, E. 防腐剂 11.5 mL UAS®

**警告**
排尿前，请勿过度冲洗您的私密区域。
使用前 1 小时内，请勿排尿。
如包装破损，请勿使用。
本产品仅供一次性使用。
防腐剂应保留在采集管内。切勿饮用防腐剂。如果防腐剂与皮肤或眼睛接触，请用清水冲洗。\*

<b>用户使用说明</b>
1. 旋开试管盖 (C)。
2. 请将采集管 (D) 推入 Colli-Pee®-tragten。
3. 采集尿液：该装置会自动采集正确容积的尿液。无需中断尿流。对于采集管无法容纳的多余尿液，将通过收集罩另一端排入马桶**
4. 将采集管从 Colli-Pee® 漏斗装置上取下。
5. 盖紧采集管。应将试管盖 (C) 旋紧。
6. 根据当地塑料废弃物相关法规丢弃 Colli-Pee® 漏斗。
7. 清洗双手。

\*有关更多信息，请参阅 SDS，网址如下：www.novosanis.com
\*\*如果该装置引发任何严重事故，请通知 Novosanis 和 FAMHP, 网址如下：https://www.famhp.be/en

<b>AR</b> <div>جهاز أخذ العينات الذاتية للبول من أول تدفق</div>
<span></span>
من أجل التجميع العياري والحجمي لعينات البول من التدفق الأول والحفاظ عليها، اقرأ كافة التعليمات قبل جمع العينة.

<b>ALAT SAMPLING MANDIRI URINE PAGI PERTAMA</b>
<span></span>
Untuk mengambil dan menyimpan sampel urin pagi pertama secara volumetrik dan terstandardisasi.
Baca semua petunjuk sebelum mengambil sampel.

<b>TIAP KEMASAN BERISI</b>
<b>I. Corong Colli-Pee®</b>
A. Casing, B. Pelampung
<b>II. Tabung Sampel</b>
C. Tüp tabung, D. Tabung sampling, E. Bahan pengawet UAS® 11.5 mL

<b>HATI-HATI</b>
JANGAN cuci area kemaluan Anda secara menyeluruh sebelum buang air kecil.
JANGAN buang air 1 jam sebelum penggunaan.
JANGANgunakan jika kemasan rusak.
Hanya untuk sekali pakai.
Bahan pengawet harus tetap di dalam tabung pengumpul. Jangan meminum bahan pengawet. Basuh dengan air jika bahan pengawet mengenai mata atau kulit.*

<b>إرشادات للمستخدم</b>
1. قم بفتح غطاء الأنبوب (C)
2. ادفع أنبوب الجمع (D) على قمع كولي بي Colli-Pee®.
3. اجمع البول: سيجمع الجهاز تلقائيًا الكمية الصحيحة. ليست هناك حاجة لإيقاف تدفق البول. سيتدفق البول الزائد الذي لم يعد يلزم أنبوب الجمع إلى المراوح عبر الطرف الآخر من المبيت.**
4. افصل أنبوب الجمع عن قمع كولي بي Colli-Pee®.
5. أغلق الأنبوب بإحكام. يجب ربط غطاء الأنبوب (C) بإحكام.
6. يجب التخلص من قمع كولي بي Colli-Pee® طبقًا للوائح المحلية الخاصة بالمخلفات البلاستيكية.
7. اغسل يديك.

\*Informasi selengkapnya dapat dibaca di LDK, www.novosanis.com
\*\*jika terjadi insiden serius dengan perangkat, beri tahu Novosanis dan FAMHP: https://www.famhp.be/en

<b>DA</b> <div>ENHED TIL SELVPRØVETAGNING AF FØRSTE LADET URIN</div>
<span></span>
Til standardiseret, volumetrisk prøvetagning og opbevaring af første ladet urin.
Læs alle instruktioner inden prøvetagning.

<b>PAKKEN INDEHOLDER</b>
<b>I. Colli-Pee® rør</b>
A.Bæger, B. Flyder
<b>II.Prøveglas</b>
C. Hætte, D. Prøveglas, E. Konservningsmiddel 11.5 mL UAS®

**FORSIGTIG**
Vask IKKE dit intimområde grundigt, inden du lader vandet.
Lad IKKE vandet 1 time for brug.
Må IKKE bruges, hvis emballagen er beskadiget. Kun til engangsbrug.
Konservningsmidlet skal forblive inde i prøveglasset.
Konservningsmidlet må ikke indtages. Skyl med vand, hvis konservningsmidlet kommer i kontakt med hud eller øjne.\*

<b>Brugervejledning</b>
1. Skru haetten (C) af.
2. Skub samlerøret (D) på Colli-Pee®-tragten.
3. Opsamling af urin: enheden opsamler automatisk den korrekte mængde. Du behøver ikke at afbryde urinstrømmen. Overskydende urin, der ikke kan være i glasset, strømmer ud i toiletlet via den anden ende af bægeret.**
4. Kobl prøveglasset fra Colli-Pee® rør-skruen.
5. Luk prøveglasset tæt. Hæetten (C) skal skrues godt på.
6. Bortskaf Colli-Pee® røret i henhold til lokale regler for plastaffald.
7. Vask dine hænder.

\*More information kan findes på SDS, www.novosanis.com
\*\*I tilfælde af en alvorlig hændelse med enheden, bedes du informere Novosanis og FAMHP: https://www.famhp.be/en

<b>UK</b> <div>UKCA</div>
<span></span>
(NL) Niet hergebruiken - (EN) Do not re-use - (FR) Ne pas réutiliser - (IT) Non riutilizzare - (PT) Não reutilizar - (ES) No reutilizar - (THAI) ห้ามนำกลับไปใช้ซ้ำ - (JP) 再利用不可 - (KO) 재사용 금지 - (DE) Nicht wiederverwenden - (NO) Må ikke gjenbrukes - (BR) Não reutilizar - (RO) A nu se refolosi - (TR) Yeniden kullanmayın - (ZH) 不得重复使用 - (ID) Jangan digunakan ulang - (VI) Không tái sử dụng - (PL) Nie używać ponownie - (SV) Återanvänd inte - (DA) Må ikke gjenbruges - (AR) لا تكرر استخدام المنتج - (AR)

<b>تحتوي العبوة الواحدة على Colli-Pee®</b>
I. قمع كولي بي Colli-Pee®
A. المبيت, B. الجزء العائم
<b>II. أنبوب الجمع</b>
C. غطاء الأنبوب, D. أنبوب الجمع, E. مادة حافظة بمقدار 11.5 مل UAS®
<b>تنذير:</b>
لا تفصل قطعك الحميمية جيدًا قبل التبول. لا تتبول قبل الاستخدام بساعة.
لا تستخدم المنتج في حالة تلف العبوة. لا تستخدم مرة واحدة فقط.
يجب أن تظل المادة الحافظة داخل أنبوب الجمع. لا تقرب المادة الحافظة البشرية أو العينين أو حسلتها بلأما.**

<b>إرشادات للمستخدم</b>
1. قم بفتح غطاء الأنبوب (C)
2. ادفع أنبوب الجمع (D) على قمع كولي بي Colli-Pee®.
3. اجمع البول: سيجمع الجهاز تلقائيًا الكمية الصحيحة. ليست هناك حاجة لإيقاف تدفق البول. سيتدفق البول الزائد الذي لم يعد يلزم أنبوب الجمع إلى المراوح عبر الطرف الآخر من المبيت.**
4. افصل أنبوب الجمع عن قمع كولي بي Colli-Pee®.
5. أغلق الأنبوب بإحكام. يجب ربط غطاء الأنبوب (C) بإحكام.
6. يجب التخلص من قمع كولي بي Colli-Pee® طبقًا للوائح المحلية الخاصة بالمخلفات البلاستيكية.
7. اغسل يديك.

<b>إرشادات للمستخدم</b>
1. Putar dan lepaskan tutup tabung hingga lepas (C).
2. Tekan selang sampling (D) pada corong Colli-Pee®.
3. Kumpulkan urine: alat akan otomatis mengumpulkan urine dengan volume yang tepat. Tidak perlu menghambat aliran urine. Urine yang berlebih tidak akan masuk ke dalam tabung pengumpul dan akan mengalir ke toilet melalui ujung casing.**
4. Lepaskan tabung pengumpul dari alat corong Colli-Pee®.
5. Tutup tabung dengan kencang. Tutup tabung (C) harus diputar hingga kencang.
6. Buang corong Colli-Pee® sesuai peraturan setempat untuk limbah plastik.
7. Basuh tangan Anda.

\*معلومات على المزيد من المعلومات في صحيفة بيانات السلامة www.novosanis.com
\*\*jika terjadi insiden serius dengan perangkat, beri tahu Novosanis dan FAMHP: https://www.famhp.be/en

<b>VI</b> <div>Thiết bị tự lấy mẫu nước tiểu đầu dòng</div>
<span></span>
Nhằm lấy và bảo quản mẫu nước tiểu đầu dòng đúng lượng và hợp chuẩn.
Đọc toàn bộ hướng dẫn trước khi lấy mẫu.

<b>MỘT BỘ THIẾT BỊ GỒM</b>
<b>I. Phễu Colli-Pee®</b>
A. Phễu lọc, B. Phao nổi
<b>II. Ống lấy mẫu</b>
C. Nắp ống, D. Ống lấy mẫu, E. Chất bảo quản 11.5 mL UAS®

**CẢNH BÁO**
KHÔNG rửa kỹ vùng kín của bạn trước khi đi tiểu.
KHÔNG đi tiểu trong vòng 1 giờ trước khi sử dụng.
KHÔNG sử dụng khi thấy bao bì bị hư hỏng.
Chỉ sử dụng một lần.
Chất bảo quản phải được giữ nguyên trong ống lấy mẫu. Không được uống chất bảo quản. Nếu như chất bảo quản tiếp xúc với da hoặc mắt, hãy rửa sạch bằng nước.\*

<b>Hướng dẫn sử dụng</b>
1. Mở nắp ống (C).
2. Ấn mạnh ống lấy mẫu (D) vào phễu Colli-Pee®.
3. Lấy mẫu nước tiểu: thiết bị sẽ tự động lấy lượng nước tiểu chính xác. Không cần làm gián đoạn dòng nước tiểu. Lượng nước tiểu thừa không vừa với ống lấy mẫu sẽ chảy xuống bồn cầu qua đầu kia của phễu lọc.**
4. Tháo phễu Colli-Pee® khỏi ống lấy mẫu.
5. Đóng chặt ống. Nắp ống (C) phải được vặn chặt.
6. Tiêu hủy phễu Colli-Pee® theo quy định của địa phương về rác thải nhựa.
7. Rửa tay.

\*Bản có thể tìm thêm thông tin trên Phiếu an toàn hóa chất tại địa chỉ www.novosanis.com
\*\*Trong trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng do thiết bị này, vui lòng thông báo cho Novosanis và FAMHP theo địa chỉ: https://www.famhp.be/en

<b>UK</b> <div>UKCA</div>
<span></span>
(NL) Niet hergebruiken - (EN) Do not re-use - (FR) Ne pas réutiliser - (IT) Non riutilizzare - (PT) Não reutilizar - (ES) No reutilizar - (THAI) ห้ามนำกลับไปใช้ซ้ำ - (JP) 再利用不可 - (KO) 재사용 금지 - (DE) Nicht wiederverwenden - (NO) Må ikke gjenbrukes - (BR) Não reutilizar - (RO) A nu se refolosi - (TR) Yeniden kullanmayın - (ZH) 不得重复使用 - (ID) Jangan digunakan ulang - (VI) Không tái sử dụng - (PL) Nie używać ponownie - (SV) Återanvänd inte - (DA) Må ikke gjenbruges - (AR) لا تكرر استخدام المنتج - (AR)

<b>AR</b> <div>جهاز أخذ العينات الذاتية للبول من أول تدفق</div>
<span></span>
من أجل التجميع العياري والحجمي لعينات البول من التدفق الأول والحفاظ عليها، اقرأ كافة التعليمات قبل جمع العينة.

<b>تحتوي العبوة الواحدة على Colli-Pee®</b>
I. قمع كولي بي Colli-Pee®
A. المبيت, B. الجزء العائم
<b>II. أنبوب الجمع</b>
C. غطاء الأنبوب, D. أنبوب الجمع, E. مادة حافظة بمقدار 11.5 مل UAS®
<b>تنذير:</b>
لا تفصل قطعك الحميمية جيدًا قبل التبول. لا تتبول قبل الاستخدام بساعة.
لا تستخدم المنتج في حالة تلف العبوة. لا تستخدم مرة واحدة فقط.
يجب أن تظل المادة الحافظة داخل أنبوب الجمع. لا تقرب المادة الحافظة البشرية أو العينين أو حسلتها بلأما.**

<b>إرشادات للمستخدم</b>
1. قم بفتح غطاء الأنبوب (C)
2. ادفع أنبوب الجمع (D) على قمع كولي بي Colli-Pee®.
3. اجمع البول: سيجمع الجهاز تلقائيًا الكمية الصحيحة. ليست هناك حاجة لإيقاف تدفق البول. سيتدفق البول الزائد الذي لم يعد يلزم أنبوب الجمع إلى المراوح عبر الطرف الآخر من المبيت.**
4. افصل أنبوب الجمع عن قمع كولي بي Colli-Pee®.
5. أغلق الأنبوب بإحكام. يجب ربط غطاء الأنبوب (C) بإحكام.
6. يجب التخلص من قمع كولي بي Colli-Pee® طبقًا للوائح المحلية الخاصة بالمخلفات البلاستيكية.
7. اغسل يديك.

<b>UK</b> <div>UKCA</div>
<span></span>
(NL) Fabrikant - (EN) Manufacturer - (FR) Fabricant - (IT) Fabricante - (PT) Fabricante - (ES) Fabricante - (THAI) ผู้ผลิตสินค้า - (JP) 製造業者 - (KO) 제조사 - (DE) Hersteller - (NO) Produsent - (FR) Fabricante - (RO) Producător - (TR) Üretici - (ZH) 制造商 - (ID) Produsen - (VI) Nhà sản xuất - (PL) Wytwórca - (SV) Tillverkare - (DA) Producent - الشركة المصنعة - (AR) AR)

(NL) UKCA-markering - (EN) UKCA marking - (FR) Marquage UKCA - (IT) Marchio di conformità UKCA - (PT) Marca UKCA - (ES) Marcado UKCA - (THAI) เครื่องหมาย UKCA - (JP) UKCA マーク - (KO) UKCA 마크 - (DE) UKCA-Kennzeichnung - (NO) UKCA-merke - (BR) Marca UKCA - (RO) Marcă UKCA - (TR) UKCA işareti - (ZH) UKCA 标志 - (ID) Tanda UKCA - (VI) Nhâ UKCA - (PL) Oznakowanie UKCA - (SV) UKCA-märkning - (DA) UKCA-mærkning - "UKCA" علامة المطابقة للمعايير الأوروبية (AR)

(NL) Importeur Canada - (EN) Importer Canada - (FR) Importateur Canada - (IT) Importatore Canada - (PT) Importador Canadá - (ES) Importador Canadá - (JP) 輸入者 カナダ - (KO) 수입 업체 캐나다 - (DE) Importeur Kanada - (NO) Importør Canada - (BR) Importador Canadá - (RO) Importator Canada - (ZH) 进口商 加拿大 - (PL) Importer Kanada - (SV) Importör Kanada - (DA) Importør Canada - (AR) المستورد كندا (AR)

<b>CE</b> <div>UKCA</div>
<span></span>
(NL) CE-markering - (EN) CE marking - (FR) Marquage CE - (IT) Marchio di conformità CE - (PT) Marca CE - (ES) Marcado CE - (THAI) เครื่องหมาย CE - (JP) CE マーク - (KO) CE 마크 - (DE) CE-Kennzeichnung - (NO) CE-merke - (BR) Marca CE - (RO) Marcă CE - (TR) CE işareti - (ZH) CE 标志 - (ID) Tanda CE - (VI) Dấu CE - (PL) Oznakowanie CE - (SV) CE-märkning - (DA) CE-mærkning - "CE" علامة المطابقة للمعايير الأوروبية (AR)

<b>IVD</b>
(NL) Medisch hulpmiddel voor in-vitro diagnostiek - (EN) In vitro diagnostic medical device - (FR) Dispositif médical de diagnostic in vitro - (IT) Dispositivo medico-diagnostico in vitro - (PT) Dispositivo médico de diagnóstico in vitro - (ES) Dispositivo médico de diagnóstico in vitro - (THAI) เครื่องมือแพทย์สำหรับ การวินิจฉัยทางการแพทย์ใน vitro - (JP) In vitro 診断用医療機器 - (KO) 체외 진단 의료기기 - (DE) Medizinprodukt zur In-vitro-Diagnostik - (NO) In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr - (BR) médico de diagnóstico in vitro - (RO) Dispozitiv medical de diagnosticare in vitro - (TR) In vitro tbbi teşhis cihazı - (ZH) 体外诊断医疗器械 - (ID) Alat kesehatan diagnostik in vitro - (VI) Thiết bị y tế chẩn đoán in vitro (PL) Przed użyciem zapoznaj się z instruk